

## کتاب نما

قرآن کی کرنیں (جلد اول تا سوم اور ہشتم) حکمت یار، مترجم: ڈاکٹر عبدالصمد۔ ملنے کا چاہتا یونیورسٹی  
بک انجینئرنگ، خیبر پختونخواہ، پشاور۔ مکتبہ معارف اسلامی، منصورہ، لاہور۔ فون: ۰۳۲-۳۵۳۳۲۳۱۹۔  
صفحات (علی الترتیب): ۶۷۰، ۵۰۰، ۵۱۲ اور ۲۳۶۔ قیمت فی جلد: ۵۰۰ روپے۔

انجینئرنگ بک دین حکمت یار معروف مجاہد اور حزبِ اسلامی افغانستان (حکمت یار گروپ)  
کے صدر ہیں۔ اشٹرا کی سامراج کو شکست دینے اور سوویت یونین کے توڑنے میں ان کا کردار  
بہت نمایاں رہا ہے۔ طالبان کے اقتدار کے بعد انہوں نے کشکش سے اجتناب کیا اور ان کی توجہ  
مطالعے اور تصنیف و تالیف کی طرف مبذول رہی (نائیں الیون کے بعد حزبِ اسلامی محدود پیمانے پر  
پھر سرگرم عمل ہو گئی)۔ ان کی گوشہ گیری کا ایک شرپستو میں قرآنِ حکیم کی تفسیر ہے۔ قرآن پلوشی  
جس کا اردو ترجمہ پیش نظر ہے۔

اردو میں ترجم و تشریحات قرآن کی تعداد سیکروں میں ہو گی مگر پشتہ میں ایسا نہیں ہے۔  
چنانچہ حکمت یار صاحب نے پشتہ میں قرآن کے دل کش اور دقیق ترجمے کی کمی کو پورا کرنے کے  
مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس مشقت طلب کام میں انہوں نے ہر لفظ کے دقیق ترجمے کے ساتھ  
آیات کی خوب صورت اور دل کش ادبی تراکیب کا بھی خیال رکھا ہے۔ قرآنی تراکیب اور آیات  
کے تین تین، چار چار متبادل ترجمے دے کر بتایا ہے کہ کون سا ترجمہ دقیق اور بہتر ہے اور کیوں؟ وہ  
کہتے ہیں کہ میں نے ممکنہ حد تک ہر لفظ کا نہایت امامت داری سے ترجمہ کیا ہے۔ ترجمے کے الفاظ کی  
تعداد، آیت کے الفاظ کی تعداد کے برابر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں دی گئی فہرست کے مطابق  
انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کے تقریباً ۵۰ ترجم و تشریحات اور کتب لغت سے استفادہ کیا ہے۔  
اس تفسیر سے کہیں کہیں حکمت یار صاحب کے شخصی احوال کا بھی پتا چلتا ہے، مثلاً یہ کہ